

سرپرستی کی گائیڈ



NYC
HEALTH+
HOSPITALS

NYC
HEALTH+
HOSPITALS

صحت سے بھرپور زندگی جیئیں

NYC | **YOUNG MEN'S
INITIATIVE**



اس بروشر تک آن لائن رسائی حاصل کرنے کے لیے
اپنے سمارٹ فون سے اس کیوار کوڈ کو اسکین کریں!



رابطے میں رہیں۔ ہمیں فالو کریں۔

www.nychealthandhospitals.org



فرہنگ

زیر تولیت: وہ شخص جس کے لیے سرپرست فیصلے کرتا ہے۔ وہ کوئی بچہ، معذور بالغ فرد یا نشوونما میں معذوری کا شکار کوئی بالغ فرد ہو سکتا ہے۔

باخبر رضامندی: وصول کی جانے والی خدمات کے فوائد اور خطرات کے بارے میں مکمل طور پر سمجھ کر اجازت دینا۔

سرپرست کے طور تعیناتی کے لیے درخواست: بچہ، معذور بالغ فرد یا نشوونما میں معذوری کے شکار کسی بالغ فرد کا سرپرست بننے کے لیے درکار دستاویزات۔

سرپرست: ایک 18 برس یا اس سے بڑی عمر کا فرد جو کسی بچے، معذور بالغ فرد یا نشوونما میں معذوری کے شکار کسی بالغ فرد کی جانب سے تعلیم، مالی معاملات اور طبی دیکھ بھال کے حوالے سے فیصلے کرتا ہے۔

سرپرستی: وہ حق جو قانون کی جانب سے ایک فرد کو ملتا ہے جس سے وہ کسی بچے، معذور بالغ فرد یا نشوونما میں معذوری کے شکار کسی بالغ فرد کی جانب سے تعلیم، مالی معاملات اور طبی دیکھ بھال کے حوالے سے فیصلے کرتا ہے۔

طبی دیکھ بھال کا مختار: وہ شخص جس کو کوئی ایسا فرد اپنی طبی دیکھ بھال کے سلسلے میں اپنی طرف سے میصلے لینے کے لیے منتخب کرتا ہے جب مذکورہ فرد اپنے فیصلے خود لے نہ سکے۔

معذور بالغ فرد: ایک 18 برس سے بڑی عمر کا کوئی فرد جو اپنے فیصلے آپ کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو۔

نشوونما کی معذوری: ایسا عارضہ جس سے کسی فرد کی باخبر رضامندی دینے کی صلاحیت کم ہو سکتی ہو۔ اس طرح کا عارضہ بچپن میں لاحق ہوتا ہے اور یہ ایک فرد میں سیکھنے، زبان، رویوں اور/یا جسمانی نشوونما کے متعلق ہو سکتا ہے۔

قانونی طور پر سرپرست بننے کا اہل کون ہے؟

کوئی بھی ایسا فرد جس کی عمر 18 برس ہے اور وہ قانونی طور پر ریاست ہائے متحدہ امریکہ کا شہری ہے تو وہ نیویارک کی ریاست میں سرپرست بننے کا اہل ہے۔ کسی نابالغ بچے کا قانونی سرپرست عام طور پر اس کا والد یا والدہ ہوتے ہیں، تاہم کوئی رشتہ دار یا پھر کوئی دوسرا قابل اعتماد بالغ فرد بھی سرپرست ہو سکتا/سکتی ہے۔ مجرمانہ ریکارڈ رکھنے والا فرد سرپرست ہونے کا اہل نہیں ہو سکتا۔

سرپرست بننے کا عمل

نابالغ/کی سرپرست

ایک سرپرست بننے کے لیے، آپ کو لازمی طور پر:

+ عدالت میں سرپرستی کی درخواست جمع کروانی ہو گی۔

+ طبی فیصلوں کے حوالے سے آپ کے بچے کی صلاحیت کے سلسلے میں آپ کو کسی لائسنس یافتہ ڈاکٹر اور لائسنس یافتہ ماہر نفسیات سے اپنے بچے کی تشخیص کروانی ہو گی۔

اگر فیصلہ یہ ہوا کہ آپ کا بچہ طبی فیصلوں کے حوالے سے باخبر رضامندی دینے کا اہل نہیں ہے تو پھر سماعت کی جائے گی جس میں ایک قانونی سرپرست کا انتخاب کیا جائے گا۔

سرپرستی کی خصوصی اقسام

عارضی سرپرستی ایسی ہنگامی صورتوں میں دی جاتی ہے کہ جہاں ایک فرد اپنے فیصلے آپ کرنے کا اہل نہیں ہوتا۔ نیویارک کی ریاست میں عارضی سرپرستی فوری طور پر دی جا سکتی ہے اور یہ 60 یوم تک برقرار رہتی ہے۔

مستعد سرپرستی کسی فرد کو ایک نابالغ بچے کی عارضی سرپرستی ایسی صورت میں دے دیتی ہے جب اس کے والدین اس بچے کی دیکھ بھال نہ کر پا رہے ہوں۔ عام طور پر یہ ایسی صورت میں ہوتا ہے جب بچے کے والدین بیمار ہوں یا ان کا انتقال ہو چکا ہو۔

درخواست جمع کروانے کے لیے آپ کو تمام مطلوبہ معلومات نیویارک اسٹیٹ کورٹس الیکٹرانک فائلنگ (New York State Courts Electronic Filing, NYSCEF) کی مندرجہ ذیل ویب سائٹ پر مل جائیں گیں:

<http://www.nycourts.gov/courthelp//Guardianship/basics.shtml>



جب میرے بچے کی عمر 18 برس ہو جائے، تو کیا ہو گا؟

آپ کے بچے کی 18 ویں سالگرہ کے بعد، آپ مزید وقت کے لیے اس کے قانونی سرپرست نہیں رہیں گے۔ قانون کے مطابق، ایسے تمام افراد جن کی عمریں 18 برس یا اس سے زیادہ ہیں ان کو باختیار تصور کیا جاتا ہے۔ قانونی طور پر، **باختیار ہونے** کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرد اپنی صحت کی دیکھ بھال، مالی معاملات اور زندگی کے دیگر اہم امور میں خود فیصلے کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔

صحت کی دیکھ بھال کے سلسلے میں باختیار ہونے کا تعین طبی علاج معالجے کے سلسلے میں ان کی جانب سے طبی علاج معالجے کے لیے **باخبر رضامندی** دینے کی اہلیت سے کیا جاتا ہے۔ باخبر رضامندی طبی علاج معالجے کے حوالے سے تمام فوائد اور خطرات کو سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بچے میں باخبر رضامندی دینے کی صلاحیت نہیں ہے تو پھر آپ ان کی 18 ویں سالگرہ کے بعد ان کی سرپرستی حاصل کرنے کی بات پر غور کرنا چاہ سکتے ہیں۔ اس سے آپ کے بالغ بچے کو طبی دیکھ بھال حاصل کرتے وقت حفاظت اور معاونت بہم پہنچ سکتی ہے۔

سرپرستی کیا ہوتی ہے؟

سرپرستی قانونی طور پر والدین یا کسی قابل اعتماد بالغ فرد کو عدالت کی جانب سے دی جاتی ہے۔ جو اپنے بہترین مفاد میں خود اپنے فیصلے کرنے کے "قابل نہیں ہے"، ایسے فرد کی طرف سے فیصلے لینے کا قانونی اختیار سرپرستی کہلاتا ہے۔ تمام افراد جب 18 برس کے ہوجاتے ہیں تو ان کو باختیار تصور کیا جاتا ہے۔ طب میں، **باختیار ہونے** کی تعریف مذکورہ شخص میں باخبر رضامندی دینے کی صلاحیت یا اس نے جس طبی دیکھ بھال کے حصول کے لیے اتفاق کیا ہے، اس کو مکمل طور پر سمجھنے کی صلاحیت ہے۔

اگر آپ کے بچے کی عمر 18 برس ہوگئی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ابھی بھی طبی فیصلوں کے سلسلے میں مدد کی ضرورت ہے تو پھر اس کے تحفظ کے لیے آپ یا کسی دوسرے قابل اعتماد بالغ فرد کا ان کے قانونی سرپرست کے طور پر انتخاب کیا جاسکتا ہے۔ آپ کے بالغ بچے کی باختیار ہونے کی تشخیص کے لیے ایک ڈاکٹر اور ماہر نفسیات کی جانب سے معائنہ کرنے کی ضرورت ہوگی۔

